

Ref No.: HRPL/2023/238

November 03, 2023

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.

Sub: <u>E-Payment of Final Dividend No. 31</u> For the Year Ended 30 June 2023

Dear Sir,

We are pleased to inform that dividend amount in respect of Final Cash Dividend declared and approved by the Shareholders of Habib Rice Products Ltd., in their Annual General Meeting held on October 26, 2023 at Rs. 1.50 per share i.e. 30% has already credited on November 02, 2023 into the respective bank accounts of the Shareholders who have provided the valid IBAN.

Newspaper advertisement in this regard are attached which was published on Friday, November 03, 2023 in the Business Recorder (English) and Daily Duniya (Urdu).

You may please inform the members of Stock Exchange accordingly.

Thanking you,

Best regards,

For: Habib Rice Products Ltd.

Ali Asghar Kajani Company Secretary

Encl: As Stated Above

C.C. to:

- 1. Securities & Exchange Commission of Pakistan, Islamabad.
- 2. Head of Operations, Central Depository Co. of Pakistan Ltd., Karachi.
- 3. Share Registrar: CDC Share Registrar Services Ltd., Karachi.

Plant:

Ahmad Habib Boulevard, Hub 90250, Baluchistan, Pakistan. Phone: +92-853-363963 to 5, Fax: + 92-853-371009, + 92-21-38704754 UBL Building, I.I Chundrigar Road, Karachi-74000, Pakistan, Phone: +92-21-32411887, Fa

Head Office: Email: UBL Building, I.I Chundrigar Road, Karachi-74000, Pakistan. Phone: +92-21-32411887, Fax: +92-21-32414581 info@habibriceproducts.com, nisarmeghani@habibriceproducts.com www.habibriceproducts.com

Lawth -

Chlef Financial Officer

ober 2023 came down to 103 per litre compared to 18 per litre in September 3. Similarly average el prices came down to 111 per litre in October from Rs 321 per litre in ember 2023.

1 YoY basis, in October total OMC's sales down ercent while Ex-FO sales n 17 percent.

e YoY fall in sales is due gher fuel prices and ecoic slowdown, Myesha ul at Topline Securities

) sales for October 2023 by 74 percent YoY and ercent MoM to 54,000 due to lower FO based er generation.

is takes first four months Y24 total sales to 5.1 miltons, down 17 percent while Ex-FO sales 1 by just 6.0 percent YoY 7 million tons in the first months of FY24.

highlight, average petrol s in the first four months (24 clocked in at Rs 290 itre up 25 percent YoY iverage diesel prices up ercent YoY to Rs 293 n the first four months of

nong the listed entities, ck Petroleum (APL) clocked at 124,000 tons, percent decline YoY and percent increase MoM. ales fell by 53 percent and 39 percent MoM.

kistan State Oil (PSO) a fall of 26 percent YoY up 23 percent MoM to 000 tons. FO sales ned by 95 percent YoY 55 percent MoM. PSO market share stood at 50 nt in October 2023 comd to 51 percent in the month in 2022 and 48 nt in September 2023. ell Pakistan (SHEL) saw percent fall YoY and a ercent MoM rise to 0 tons. HSD saw a 36 nt fall YoY and 28 perise MoM, which majoritributed to the company

r FY24, we anticipate a tial recovery in Ex-FO sales, estimated to ise by up to 5 percent", sha Sohail said and this is primarily attribo a pickup in economic ty, where interest rates pected to decline in the half of FY24, coupled a favorable agricultural his year.

DAP, SBP organise awareness session for

parts of the province," he concluded.

This he addressing the participants of the National Defence University 25th Security Workshop led by NDU head Major General Raza Azaid. The participants include current and former members of provincial assemblies, senators, senior civil and military officers, academicians, as well as representatives of civil society. Provincial caretaker ministers, Chief Secretary Dr Fakhre Alam, IG Police Riffat Mukhtar and provincial secretaries attended the program. The CM said that the purpose of such trips is to acquaint participants with the realities of the area they were visiting, exchange ideas with respect to security challenges, and build synergistic alliances that allow us to find solutions to shared problems.

"We are a country of over 200 million people, and by 2025 we will have 100 million people in the middle class. thus. making Pakistan's middle class the 10th largest in the world," he said and added that one of the major challenges for any government was to create opportunities and to particularly provide our youth with avenues for fulfillment and self-actualization.

view the nexus between ernment has established security and development, Education City over an area the federal government and of 8,921 acres to establish the Sindh government were more than twenty educationutilising resources towards improv- with modern education. "We ing access to education and have established healthcare, improving con- Business Registration Portal nectivity, and ensuring the (business.sindh.gov.pk) to provision of basic amenities enable the businessmen to particularly for the inhabi- register their business online tants of cosmopolitan cities with the concerned departlike Karachi in order to cater ments and SESSI. "We have for the long-awaited waived the fee for registrademand/need of the particu- tion with the Labour departlar and working women, ment," he said. Earlier, the especially with respect to CM, the home minister, the public transport.

bridge the gap between rural the workshop.

RECORDER REPORT

wheat and reduce the pro-

increase the productivity of as possible.

Massive project

launched to increase

wheat production,


minister told

ISLAMABAD: Aimed to be completed as soon

and public interest can

significa hemmedina variate verage petrol price of in the culmination of dacoit transport has already begun culture from the remaining to yield results given that women who were hitherto precluded from accepting said while employment in areas far from their homes were now increasingly accepting such jobs. He added that similarly, students and individuals belonging to other segments were beginning to reap the benefits of such policies.

The Sindh govt has recently gone through the devastating floods of 2022 displacing the population in 23 districts, the interim CM said and added the Sindh government has, resultantly, had to ensure the rehabilitation of the people affected by the floods while also ensuring the rehabilitation of roads, water supply, and other infrastructural facilities, we have developed as Dhabeji SEZ, a Priority Project under CPEC - that the project would facilitate potential investors to establish new enterprises or transfer their facilities to Dhabeii SEZ, the CM said and added the project, under PPP, has been awarded for development and would be ready in a couple of years to attract industrial output of millions of dollars and about 100,000 jobs. The Federal govt has approved two new economic zones on the recommendation of the Sindh govt at Naushehro Feroze Industrial Park, and National Industrial Park and Bholari Special The Baqar said keeping in CM said that the Sindh govsignificant al institutes to equip youth the minister education, the chief He added that at the same secretary, and the IG Police time, the Sindh government answered the questions has also endeavoured to asked by the participants of



In compliance with the requirements of Section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, the Company has withheld dividend of those shareholders who have not provided copy of their valid CNIC and complete bank details, including IBAN.

Accordingly, shareholders are requested to contact our Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Pvt.) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi. Tel: Nos. (+9221) 34380101-5, Fax No: (+9221) 34380106, Email: info.shares@famco.com.pk (in case shares are held in Physical form) or their respective Participants / CDC Investor Account Services Department (in case shares are held in CDS) along with copy of their valid CNIC and duly filled e-Dividend Mandate Form, which is available on Company's website http://www.security-papers.com to release their dividend(s).

Any shareholder can now register and access CDC's Centralized Dividend Register (CCDR) through their web portal http://eservices.cdsaccess.com.pk to find out his/her dividend payment position pertaining to a listed company and download related Counter Foil / Tax / Zakat Certificate.

Habib Rice Products IM.

2nd Floor, UBL Building, I.I.Chundrigar Road, Karachi-74000

Pakistan. Tel: +92-21-32411887 Fax: +92-21-32414581

CREDIT OF FINAL CASH DIVIDEND

FOR THE YEAR ENDING 30 JUNE 2023

We are pleased to inform our Shareholders that the

30% Final Cash Dividend i.e. Rs. 1,50 per share for the year ending 30 June 2023, approved by the

members in 43rd Annual General Meeting of the Company held on 26th October 2023, has been

credited on 02 November 2023 through electronic

mode directly into the designated bank accounts

of the shareholders who have submitted their

Computerised National Identity Card (CNIC) and

their valid International Bank Account Number

In compliance with the requirements of Section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies

(Distribution of Dividends) Regulation, 2017,

the Company has withheld dividend of those

shareholders who have provided incorrect/

incomplete bank account details or have not

provided complete bank details including valid

IBAN, of their own bank accounts, valid email

In order to receive cash dividend withheld by

the Company as stated above, shareholders are

requested to contact the Company's Share

Registrar/CDC/Broker along with legible and

valid copy of their CNIC and provide their complete

bank account details including 24 digit valid

IBAN, valid email address and cell number by

filling the form posted at the Company's website

Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. Ph: 0800-23275 Fax: (92-21) 34326053 E-mail: info@cdcsrsl.com

By order of the board

Ali Asghar Rajani

Company Secretary

(IBAN) with complete details.

address and cell number.

Karachi November 3, 2023

Yasir Ali Quraishi Company Secretary

Karachi:

(Share Registrar)

November 03, 2023

www.hrpl-financialstatement.com

CDC House, 99-B, Block-B, SMCHS,

CDC Share Registrar Services Limited

بى ئى آ ئى جا 2

ری هشیار باش/اطلاع عام

ل B تلكى اور يحقى وار جان ين اور جائد الدكور وجم وار جان ك م يتحق كرد ار

3 (3) ~ (i tr (6) ارمان الد (ج) (C) ~ (5) HOHA AL -1200

INISTRY OF COMMERCE, GOVERNMENT OF PAKIS PAKISTAN REINSURANCE COMPANY LIMITED TENDER NOTICE (TENDER # PRC/PROC/IANITO

OUTSOURCING OF JANITORIAL SERVICES This Invitation to Bids follows the Procure the subject Project, uploaded on PRCL and I November 2023.

Pakistan Reinsurance Company Limited, N from eligible bidders (as per criteria documents) of the market that can prov Pakistan Reinsurance Company Limited, N

A Bid Security in an accep 100,000/- OR

Bid securing declar Documents can be

rested bidders may obtain biddi curement Department, 12th floo T. Khan is, properly er

Sd/-(PROCUREMENT SPECIALIST) Pakist tan Reinsurance Company Limited Ph#021-99202908 Ext. 244 & 289

تبليغي اجتماع بتي فبر 3 استین بر میلی میلی کر میلی کرد. اندیکر و کرد و برش مداولیتی و تعلیم و محک مرد محک مرکز ایکن مراوش و محکومی و محکومی و محکومی مرد و محکومی میلی مرکز میلی مرکز میلی مرکز میلی میلی مرکز مک میلی کو میلی کارا مردوسک

ی سے بی اسروع کے است میں اور ایس اور اور اسے متابا کر اور زیر اور اس اور اس اور اس اور معد دلک کر ام تلیک Videnci cano L.E.M نزاب 4/2

روی این این کار کی کار بی می او تین ایک را کار این ایک کار کار کار کار کار کار ایک کار بی می و می وادی با است ایک کار بی می وادی کار کار می وادی ار مکم بر قرار کی کار کار می وادی

301

1.1.18

dist.

مايا الاست الماية المساليك

2542 500

alter のたいなき こうの ... こんながらい

الی مجرون علی سے ایک سی ۲۰ معادد اخرت ویک کے لما تعدو

-LASWEL

آبي ايم ايف

فلسطيني شهيد

من بد کیک آنویده با بازیک مراجع مراجع که مراجع

ری رکنهٔ کا محمد به دے دیا ہے۔ وزارے تران عہاری کے کے مطابق کے مطابق گروں دیراز فرک سریرانوی میں مقومی مطاقی کم بے آتی ایک ایک

بالمينيال اب ال متعد ك في تان مذفات

ورى الى ارتان رفاطات

2110-12

45

عدر عراكه كاركيد مان رفيفات مد مراسع مدافق الشخص عرف

5,2.2.

12.04

6,2

ب-ایران کرم باز را بند اند ما مدان ک به از سلم ما اک سرایل کامل بازانات کردی. 7/2 13.3.1.12

فران کو بھی کے لوگور بیاری کردیے بارگر آصف زردری کو انتہال پالی قد دانی انتہال خان فردی منع والی محیدا کی بچر انواب اور مجید بورائیا قدری محید سے کو باری جوت میں . متد المتری کردی کی ماہی مدانت ۔ 101/19 10 \$ 100 ایز افرک دیدگر کے غلاف دیکل بلی فیر ماخر طرائ کور باروفن چا ماعت کے دیران ماجہ پر ویزانقرف JA245 6440 تر برایده کن حداث وی مول مدان که کما مرید کی در فوانتی چرک وی وال کمان کمیں خوری مدان نے تیر عاطر خران کردیا والی کے لو کس وی کرتے ہو تے ماعت 14 دمبر تک ملومی کودی۔

امرقى فير بتر نبر 8 علیت عمد تلوی امون ار است مرکز از سے مرکز بان نے واقعت کی جہ واقعت علی یا کس مرکز مرکز کوسٹرور عالمے پر جوار عوال کو کی مرکز اور نے کی مر - Cracen HErecon 2.20 Alano. 12 50

101=17.5 9,2 1000000 Lindak ANOS

Ð-

Pakistan National Shipping Corporation

INVITATION TO BIDS

ER NO. PRCO/PABX/PNSC/2023/243

kistan National Shipping Corpo ADS System through

OCUREMENT INSTA

EPADS System through e-procurement for the Procurement Installation and Commissioning of Rack Mounted IP PADS System for PNSC as per Clause 36(a) of PPR 2004 read with Rule 7A and Firms must be registered with Tauation Authorities (PRRS-R8) humg active Income Tax and Seles Tax. Procurement

ISC has reserved the funds for the Procureme e Financial Year 2023-24. It is intended that pa

for the PROCUREMENT INSTALLATION AND COM OF RACK MOUNTED IP PABX SYSTEM FOR PNSC

vy firms registered with PPRA for o-procurem stem may submit the tender documents, whi red in, signed, and stamped, and accommised

Firms are advised stem for the submise

NSC reserves the right to a PRA 2004.

ing documents will be downloaded by only those t tered with PPRA for e-procurement on EPADS https://cercoure.co.pk/#auth/login till Movember ering in PNSC through their E-mail addresses

o of th

10

Phone: 92-21-99203980-99 (Ext. 231 & 245) Sponse.com.pk Website: www.ponse.com.pk

MUHAMMAD ATHAR RIZVI, MANAGER (ADMINISTRATON)

20, 2023 0

ement on the EPADS which should be duly ed by the bid security (able) payable in the

the second secon

(%)

518524 یکراری می ارد کردی ک

12-4442 53 2002 -5553 يد يس بتي بر 10

4. 10Kingh 1/42 ما ب غراب المحمد الم المحمد الم المحمد الم المراجع المراجع الم المحمد الم المحمد الم المحمد الم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد ال المحمد بقيه نبر 11 مالى ادارو معت

NO CO Paule UP.

فعنل الرحنن بتر نبر 12 135 ALL STALLAS

2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 20000 - 20000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - الی میں مراجع کا مراجع کی مرا مراجع کی مراج مراجع کی مرا رو بورزون ب محمومی ا

بقيد فبر15 ونياكام ان خان كساته

دەرى مۇل، يۇلال ئىلىك، تاق تۇچىدىكردۇ كرا يى دەرى مۇل، يۇلال ئىلىك، تاق تۇچىدىكردۇ كرا يى

تى نقد مناقع

سالا نه اجلاس مام منعقدوا ۲ اکتو بر ۲۰۲۳ ، میں میران کی جانب ے ۲ نومبر ۲۰۲۳ ، کو بذریعه الیکترونک طریقہ کار براء راست ان شیئر دولار

مویال فبرورا بم فیں سے۔

ى دى ى شير رجد ارم ومزليند (شير رجد ار)

info@cdcsrsl.com : Ki

31 rerrit

٣جون ٢٠٢٣ء كوختم ہونے دالے سال كيليح

بم این شیئر بولارد کو بسرت اطلاع دیتے میں کہ ۳۶ جون ۲۰۱۳ وکولتم ہونے والے سال کیلیے ۳۰ غیر محتی غذ منافع مصمد یعنی ۵۰ ما روپے کی شیئر جو کمینی کے ۳۳ ویں

الوجر المعادم بالرحین المراحین می در ایران می مراحد است که مراحد بیک الاقاص می من کراد یک بی جندن نه است کمیراراز قرق های کارد (می ایرا قریلات مح کرادی قرمی۔

کپذیزایک ۱۰۰۷ کے شیکش ۱۳۴۳ اور کپذیز (منافع مطلمه کی تقسیم) ریکرلیش ۲۰۱۷

براین میکند. شرایط مولمده مدار بر بعد میکندان شینم میکار میکان معلمه روک کے دور میل نے اپنے بیک اکاد منک کو مرد سرا بیکل تصیدا نے اوم کی کی یکل دیکھیلات جنول ان کے اولی تیک اکادش کے کلاما ماؤل کی اے این مکار مادی مکل ایک تک اور

Habib

North 1 16 دور بری بر من فرونونی مر می بی ک ور مرد می بدان می از مراقب مر هب کابد بب 17,2 یے تکری کر کی جس پر ایوان کی آ ق کے لئے قرار اور کی متحدی بر ہے ہو گار سیٹیز سعید یہ مہا؟

ہ موجی مدالی میں بالاسامی ش جوی کی کار میر جاکمان نے اسے است کے لیے کی طرق میشار 4253

ايتيه نبر13 تحران وزيراعظم ریتے ہوئے کیا ، طاقت بھی تحران وقاقی وز روانتریات مرتشی سوکی سکرانی اطلامات وانتریات روانتریشی آلجسر موجو ہے - وفد بھی طلارتی

ایان صدر کے پریکی وقت سے مورکی میان کے سط بیٹرے کا اجازی پار کرنے والا میں مراکد صدر اجازی طرب کرنے کی متطوری آئم میں کے آردیکی ایک کے تحت والی ہے۔ 24,2 مقرر کردی، محکه محنت سنده نے لولیکیش جاری کردیا۔ نولیکیش ارتے کے اعلام کا اے مواری کرد وہ کا لاز میں کی کم الا کم تخالا کی مطور کی دی، وہ کی وزارتی 25/2

۵ . مذین دیک کی جانب سے جاری کر طابق 27 کو بر کو تحر بر کے دائے با Luto La 26,2 فون نيپ بتر نبر 18

SOUTHE

WEER

Sit & and

بنى بېدىن پر يې

- 30,000

יגוג דייני דיים איז איז איני אורט אין איי איגאיים איני איירע איי איניאינאיל א 27 . 1.6 £12,161 -51-52

بیلی پرداز 28 .2.

1.6 سائٹ پر وطاحت کی کی ہے کہ رصار کین کو مکو تی سر پر کی میں فتانہ

مليحد كى يرتجور

مری دانش موعی مان ی مشینی اون .

يب آرا ينز

74 1.4. 01.00

100000

escal Mary

20,2

ار سال 123 فى كوا

باعد باری ای مواند من

South LSF-

بتر نبر 21

22,22

لی . مشیر میذیا سردان ی وژن کرده قرارداد

23 بتر بير

بمارت علی ماری انتیازی با نا ۱۸ یک آزادی ایک ایدای کل

رین اردادی ایک بنیادی من ب مولی محمی اردویون کی خاط ورزی کرے تو امریکا مط

ے اس کیا کہا ہوتا مہادی کو تاکی کو تک ترحیط ان کیا کیا ہوتا مہادی آرما جنگ کے تحصیل کے قدید ملا انہا ہے ہے ایے اور قباق کا 100 ان تک پڑ مل

میں اور میں ہے۔ معادل کر اور در برعادی بریاد کے سوے ا منابع کی کو 100,685 فی دل پر ہوتے اور

ایت لیکس اعرمیدن کے سے۔ کی او 1082,67 فی ول بھ ،

خام تيل

قرارداد

10103.6.1

الى كىدر تكومت شى غا یا ہے۔ دزیراعظم مودی کے دورتکومت میں میں کھول طور پر کی آئی موجودہ میارتی سکوم اور میسا کچاں سے اشیار کی سلوک کرتی ہے۔

اجلاس طلبه

نو فيلكيش جارى

زرمهادل

12402

55

تي في

اروند بكر يوال

1.40

ふちんちん

.60

2 کما کرمای

19,5

الجزيد في ما تو محقر التظوكر ت موت الم كومور في الدين بات التحقي المان في

باغروى دالاباؤذر (MAUSER) باستك اغرسر يزلمين سر سالانه احلاس عادر ەئىي بىران

زرید بدامطل کیا جاتا ہے کہ ماند و کالہ موڑر باستک اند سز پر لموند کا پڑتیں واں (35) وال سالان دلاس حام بروز جنور 24 نومبر 2023 ماکونی 11:00 بیج مقدرجه ذیل امور کی انجام دی کیلئے ماطرو ک الابلاعي ولذكور ودركراحي شرينعقد وكا -26 نوم 2022 مكونىغلىد 34 وال سالا غدامان مام كى كارد دانى كى قو ثيق كرنا. 2- 30 بون 2023 راد مم وفي وال الى سال كميلية كون ترتفر افى شد وصابات معدان برذائر يكمر ادرة فايترزكى ريور ف كى ومولى فورد فوش ادر مطورى ويد د. مجنى كرة المرز كالقر رادران كمشا بردكالين كرنا. - صاحب معدركا اجازت - كوفى ويكرام ورشتانا. کم بورڈ آف ڈائر هنا عميرين ن سکانی 03نومبر 2023. ەشى: بران مالاد اجات مام AGM ک .J.E. ۔ کتابوں کی ہندش لېنې <u>ک</u>صل پېلې کما ۲۲۱ نوم 2023 ما24¹ د یز کی تقرری کے لن 1262100 دريد كالل توكارك يكرركن كواينا ابنى يراكمي مشرر كرسكنا الحتى ب- يراكمي تقرري تحالات بالقاعد وميراد كرد جمرة وفتر عن اجاس ، مم الأكم 48 كمن قل اور أوسول بوجانى جائم .. التار براي جراب جرا مركى تدرفى إرفى المورجار ركان. ـ THK ایسوسی ایٹس (پراند لات فير: 32.6 ماي كرش استريت 2 VII,2_18101 لرايق-75500 ياكستان. (021-111-000-322

ری بر بر ۲۰۱۷ میں سے ۔ کوئی کی جب سے درجا سے کہ دہ ملکی مشہور ہو سال کیا کیا ہے کہ مولی سے بیٹے ماہم شروط در سے دورا سے سے کہ دور کو ملک والی کا کی کہ ایر کو بال کی کہ کہ سے سے میں مور کر اور کوئی کی صوبی سے مرکز ماہم میں کہ ملک کوئی ایسا سے دورا مشال کی سال کی ملک و کر اور مولی کم مرکز کی سے سال میں and tabatement .com کے مولی کو مالک و کی مولی مولی مولی مولی کہ مولی کی مولی کی مو ى ذى يادى بادى . 14 . في باك . في مالى الجامى الحك ، من شابرا وقعل ، كرا يلى قون نير : 0800-23275 ، فكس : 04326053 (92-21) الكم يو الان ك بية عن كولى جد في جد فورى طور يا ملى كري . على اصفرراجاتى كمينى يكريزى ن ذى ى CDC الاقت جوللدر كومزيد برأ ستيور نيز ايتر الجهي ميش آف باكتان كى طرف = Set / Sig Strate B. 135.